

## 38697- تجارت میں نفع لینے کی حد

### سوال

کیا تجارت میں نفع لینے کی کوئی حد مقرر ہے، یا کہ غیر محدود ہے، ہمیں اس کا جواب دلیل کے ساتھ چاہیے، آپ اس میں اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہر سال تاجر کو بہت سے ٹیکس ادا کرنا ہوتے ہیں، جو تاجر کی تائید کرتے ہیں؟

### پسندیدہ جواب

"جس شخص نے تجارت کے لیے یا رکھنے کے لیے مال خریدا ہو اس کے لیے اس وقت یا ادھار خریدی ہوئی قیمت سے زیادہ میں فروخت کرنا جائز ہے، اس کے نفع میں ہمارے علم کے مطابق تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن تخفیف اور آسانی ضرور ہونی چاہیے؛ کیونکہ ایسا کرنے کی ترغیب وارد ہے، لیکن اگر علاقے میں کسی چیز کی قیمت معروف ہو تو مسلمان شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی جاہل کو اس قیمت سے زائد پر فروخت کرے، لیکن اگر وہ اسے حقیقت کا بتا دے تو پھر ٹھیک ہے؛ کیونکہ اس کا اس قیمت سے زائد میں فروخت کرنا دھوکہ کی ایک قسم شمار ہوگا۔"

اور پھر مسلمان تو دوسرے مسلمان شخص کا بھائی ہے، نہ تو وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے کے سپرد کرتا ہے کہ اس پر ظلم کرے، اور نہ ہی اسے دھوکہ دیتا ہے، اور نہ اس سے خیانت کرتا ہے، بلکہ جہاں بھی ہو وہ اپنے بھائی کی خیر خواہی کرتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

"دین خیر خواہی کا نام ہے"

اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔

اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبد اللہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ:

"میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پر بیعت کی کہ نماز قائم کرونگا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا رہوں گا، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرونگا" انتہی۔

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء (89/13)

اور مستقل فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ جات میں یہ بھی درج ہے کہ:

"تجارت میں نفع محدود نہیں، بلکہ یہ مال کی کثرت و قلت میں طلب اور پیشکش کے حالات پر منحصر ہے، لیکن مسلمان یا دوسرے تاجر کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی خرید و فروخت میں لوگوں پر آسانی اور سہولت کرنے والا ہو، اور خریداریا فروخت کرنے والے کی غفلت کو فرصت سمجھ کر اس سے دھوکہ نہ کرتا پھرے، بلکہ وہ اخوت اسلامی کے حقوق کا خیال ضرور رکھے" انتہی۔

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء (91/13)

واللہ اعلم.